



سوال

(560) نمیر نے سجاد کی والدہ کا دودھ پیا جبکہ سجاد نے نمیر کی والدہ کا دودھ نہیں پیا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

نمیر نے سجاد کی والدہ کا دودھ پیا جبکہ سجاد نے نمیر کی والدہ کا دودھ نہیں پیا۔ تو کیا سجاد نمیر کی چھوٹی بہن سے شادی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں؟
(محمد بشیر ڈرائیور، تحصیل و ضلع ایبٹ آباد)

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ((الرِّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوَلَادَةُ)) ”جو رشتے ولادت و نسب سے حرام ہیں وہ رضاعت و دودھ سے بھی حرام ہیں۔“ 2

ریتِ مسنولہ میں سجاد نمیر کی چھوٹی بہن یا بڑی بہن کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ بشرطیکہ نمیر کی بہن نے سجاد کی والدہ یا دادی کا دودھ نہ پیا ہو اور نہ کوئی ایسی رشتہ دار نسبی یا رضاعی یا کوئی اور اس کے ساتھ ہو، جس کی وجہ سے ان کا باہمی نکاح حرام بنتا ہو۔ واللہ اعلم۔ ۲۷ ۲۸ ۱۴۲۲ھ

2 صحیح بخاری کتاب النکاح باب (وَأُمَّنَا تُحَرِّمُ الْأُمَّنَى أَنْزِلْنَا) ۲۷

قرآن و حدیث کی روشنی میں احکام و مسائل

جلد 02 ص 474

محدث فتویٰ